

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن کی جانب سے ریٹرنس یونیورسٹی کو سکول آف میڈیسن کے لیے مالی امداد دینے کی منظوری

سٹی کی جانب سے \$1 ملین کی رقم ریٹرنس سکول آف میڈیسن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگی

برامپٹن، آن (7 جولائی 2021) - آج، برامپٹن سٹی کونسل نے شہر میں سکول آف میڈیسن کے قیام کے لیے \$1 ملین کی پلاننگ گرانٹ کی ادائیگی کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ مالی اعانت کے فیصلے کے بعد ریٹرنس یونیورسٹی کے صدر محمد لاکیمی نے ایک پریزینٹیشن بھی دی، جسے اونٹیریو حکومت کو پیش کی جانے والی باضابطہ سرکاری پروپوزل کی حمایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

سٹی آف برامپٹن کی جانب سے یہ مالی اعانت اس سال کے اوائل میں صوبہ اونٹیریو کی جانب سے \$1 کی مالی اعانت کے اعلان کے مطابق ہے، جسے ریٹرنس سکول آف میڈیسن کے قیام میں مدد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس پروپوزل میں صحت کی تعلیم کے لیے ریٹرنس کے نقطہ نظر کی تفصیل موجود ہوگی، جس میں بنیادی نگہداشت، مریضوں کی ضروریات کو بہتر طور پر پورا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا وسیع تر استعمال، پیشہ وارانہ شعبہ جات کے مابین مشق اور ثقافتی طور پر حساس نوعیت کی نگہداشت کی فراہمی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔

اس مالی اعانت سے ممکنہ مقامات کی نشاندہی کے حوالے سے یونیورسٹی کو شہر کے ساتھ اشتراک کرنے میں بھی مدد ملے گی، بشمول برامپٹن انویشن ڈسٹرکٹ میں مستقبل کے میڈیکل اسکول کے طور پر نشاندہی کرنا۔ پہلے سے اعلان کردہ 18 سے 24 ماہ کی ٹائم لائن کے اندر اونٹیریو کے صوبے کو اپنی پروپوزل پیش کرنے کے حوالے سے یونیورسٹی اس پروپوزل کی تیاری میں کامیاب رہی ہے۔

ریٹرنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ اور وائس چانسلر محمد لاکیمی نے کہا کہ "اونٹیریو میں نگہداشت صحت کی تعلیم کو پھیلانے میں برامپٹن کے ساتھ شراکت داری پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کی معاونت کے جذبے کے تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ "نیا میڈیکل اسکول نہ صرف برامپٹن میں نگہداشت صحت کے نظام کو ڈرامائی طور پر فروغ دے گا، بلکہ اس سے ہمارے پورے صوبے میں صحت کی دیکھ بھال اور صحت سے متعلق دیگر شعبوں میں متنوع باصلاحیت افراد کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے ایک بنیاد بھی فراہم کرے گا۔"

برامپٹن میں ایک سکول آف میڈیسن کا قیام اونٹاریو میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے ایک نیا نقطہ نظر پیش کرے گا - یعنی ایک ایسا نقطہ نظر جو نگہداشت صحت کی خدمات کی فراہمی اور اس شعبے کے عملی مظاہرات کی بدلتی ہوئی ضروریات پر پورا اترنے کے حوالے سے یونیورسٹی کے کمیونٹی، تنوع اور وابستگی کے عزم کی عکاسی کرے گا۔ یہ نیا نقطہ نظر برامپٹن اور پورے صوبے میں صحت کے نظام میں موجودہ خامیوں پر قابو پانے میں مفید ثابت ہوگا، جن میں عالمی وباء کے دوران تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ برامپٹن میں سکول آف میڈیسن کے قیام کا مشترکہ نظریہ یونیورسٹی اور سٹی آف برامپٹن کے مابین موجودہ شراکت داری پر مبنی ہے، بشمول سائبرسیکیور کیٹیبالسٹ اور برامپٹن وینچرز زون کے۔

برامپٹن کے میئر، پیٹرک براؤن کا کہنا ہے کہ "ہم برامپٹن کی نوجوان، متنوع اور تیزی سے بڑھتی ہوئی کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پوسٹ سیکنڈری مواقع میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سٹی کے لیے ریٹرنس سکول آف میڈیسن میں سرمایہ کاری کرنے کا یہ موقع ایک اہم وقت پر آیا ہے، کیونکہ کووڈ-19 کی عالمی وباء نے صحت کی دیکھ بھال کی مساوی خدمات کی فراہمی کی ہماری ضروریات کو مزید تیز کر دیا ہے۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ "برامپٹن میں ریٹرنس سکول آف میڈیسن اس بات کو یقینی بنائے گا کہ صحت کی دیکھ بھال کے شعبے سے وابستہ پیشہ وارانہ ماہرین کی اگلی نسل بیماریوں سے بچاؤ اور صحت کے فروغ جیسے پروگراموں؛ ہوم کیئر اور ہسپتالوں کی فوری نگہداشت کی سروسز کی تربیت ہمارے اپنے شہر میں ہی مقامی طور پر حاصل کر سکے۔ تاریخی طور پر، برامپٹن کو نگہداشت صحت کی خدمات کے شعبے کے لیے مالی اعانت کا مناسب حصہ نہیں ملا، جس کے نتیجے میں ہسپتالوں میں زیادہ بھیڑ اور غیر موزوں مقامات پر علاج جیسے مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ریٹرنس سکول آف میڈیسن میں سرمایہ کاری کی وجہ سے سٹی آف برامپٹن کو اس صورت حال پر خاطر خواہ حد تک قابو پانے میں مدد ملے گی۔"

ریٹرنس یونیورسٹی کے سکول آف میڈیسن کو درج ذیل پانچ ستونوں پر قائم کیا جائے گا:

- اپنی کمیونٹی کے لیے بہترین پرائمری کیئر اور صحت کے سماجی پہلوؤں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنا
- اپنی کمیونٹیز کو ثقافتی طور پر قابل احترام نگہداشت فراہم کرنا
- نگہداشت کے معیار کو بہتر بنانے اور مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے اختراعیت اور ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا
- مریضوں کے علاج کے نتائج میں بہتری لانے کے لیے مستقبل کے معالجین کو نگہداشت صحت کے پیشہ وارانہ نیٹ ورکس کا حصہ بننے کے لیے درکار صلاحیتوں میں نکھار پیدا کے مواقع فراہم کرنا
- ہمارے معاشرے میں معمر افراد کی تعداد میں اضافے کے ساتھ، عمر رسیدگی پر خصوصی توجہ دینا اور بزرگ افراد کو معاونت فراہم کرنا

ریٹرنس سکول آف میڈیسن کی پلاننگ کمیٹی نے ریٹرنس کمیونٹی کے ساتھ [کمیونٹی مشاورت کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے](#) اور اب اپنی توجہ ایک دوسرے شاندار منصوبے پر مرکوز کر رہی ہے جس میں برامپٹن، پیل اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے اسٹیک ہولڈرز کو اس اہم معاملے سے وابستہ کیا جائے گا۔ اس مشاورتی عمل میں کمیونٹی تنظیموں، نگہداشت صحت سے تعلق رکھنے والے کاروباروں، معالجین اور کلینیکل گروپس کے رہنماؤں کے علاوہ کمیونٹی گروپوں سے بھی رابطے کیے جائیں گے تاکہ مجوزہ اسکول کے حوالے سے ان کی امیدوں اور توقعات کے بارے میں ان کی آراء حاصل کی جائے اور موصول شدہ فیڈبیک کو منصوبہ بندی کا حصہ بنایا جائے گا۔

ریٹرنس یونیورسٹی کے سکول آف میڈیسن کی پروپوزل کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں: <https://www.ryerson.ca/brampton/school-of-medicine/>

-30-

ریٹرنس یونیورسٹی کے بارے میں

ریٹرنس یونیورسٹی کینیڈا میں اختراعی اور کیریئر پر مرکوز تعلیم کے حوالے سے سرکردہ حیثیت کی حامل ہے۔ متنوع ثقافت کی حامل یہ یونیورسٹی 46,000 سے زیادہ طلباء کے علم کی پیاس بجھا رہی ہے جن میں ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے طلباء کی تعداد 2,900 ہے اور فیکلٹی عملے کی تعداد 3,800 ہے جبکہ دنیا بھر میں موجود اس کے فارغ التحصیل طلباء کی تعداد 200,000 سے بھی زیادہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں: [ryerson.ca](http://ryerson.ca)

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

جیسیکا لیچ

پی آر اینڈ کمیونیکیشنز اسپیشلسٹ

ریٹرنس یونیورسٹی

[ileach@ryerson.ca](mailto:ileach@ryerson.ca)

416.704.2166

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)

